



سوال

(258) کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حلال ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے کیونکہ صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث موجود ہے کہ:

«ان البی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سبیلہ قوم خیال قائما» (صحیح بخاری)

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔" چنانچہ اس حدیث کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت سے منقول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیشاب کرے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

«من حدیث ان البی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقہ ما کان یبول الا قاعا» (ترمذی)

"جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس بات کی تصدیق نہ کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔" امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح روایت یہی ہے اور پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی صورت میں پردہ پوشی بھی زیادہ ہے اور آدمی پیشاب کے پھینٹوں سے بھی زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ (فتویٰ کمیٹی)

صداما عنہدی والندرا علم بالصواب



صفحہ نمبر 272

محدث فتویٰ